


Sri San ar




Human Connection

- Per il calcolo dell'arrendamento annuo si applicano le norme contenute nel regolamento di attuazione.
- Viene applicata la formula: $\text{Arrendamento annuo} = \text{Cassa} \times \text{m} \times \text{r}$.
- La formula dell'arrendamento annuo si applica anche ai contratti di affitto.
- Se il contratto di locazione è a termine, si applica la formula: $\text{Arrendamento annuo} = \text{Cassa} \times \text{m} \times \text{r}$.

Assunto il contratto di locazione, il locatario deve:

- Il locatario deve versare al locatore l'importo dell'arrendamento annuo.

- Il locatario deve versare al locatore l'importo dell'arrendamento annuo in 15 rate mensili alla data di scadenza delle rate.
- Il locatario deve versare al locatore l'importo dell'arrendamento annuo in 10 rate mensili alla data di scadenza delle rate.



Advice for tenants service standards

Let's start with a standard that we've already introduced:

- Rent arrears: we will ensure that we have a standard for arrears. Emergency arrears will be:

- no more than 10 months in arrears, or
- 12 months in arrears, or
- no more than 12 months in arrears (including any arrears).

- Councils will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months.

- Rent arrears: we will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months.

- Councils will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months. Birmingham City Council, Home Office.

- Standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months: we will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months.

- Rent arrears: we will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months. Let's start with a standard that we've already introduced:

Priority 1

To ensure that we have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months, we will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months.

Action we will take

We will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months. We will have a standard for the number of tenants in arrears for more than 12 months.

Priority 2

Priority 2 issues will be dealt with as soon as possible. We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Action we will take

We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Priority 3

A Priority 3 issue is a **priority two**, but it is not a priority two. We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Action we will take

We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Priority 4

Priority 4 issues will be dealt with as soon as possible. We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Action we will take

We will contact you to discuss the issue and agree a plan of action. We will aim to resolve the issue within 10 working days.

Can you work with us to make the service better?

We are always looking for ways to improve our service. We would like to hear from you about what you think we are doing well at and what we can do better at. Please contact our Service Team.

How to contact us

You can contact us on:
0121 303 5070
0121 303 5431

You can email us on:
customer@brm.gov.uk

You can contact us at:
Birmingham City Council
Humanities Centre
Pride Park Services
Warren House
Rugby Street
Aston
B7 4AA

This is an important document about ADVICE FOR PRIVATE TENANTS and about the service standards we have to meet. If you do not understand this document then please ask a friend or relative, who speaks English, to assist you or hand it to your housing officer or housing adviser. It will be in your best interests to read it in full.

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

這是一份有關私人租客諮詢服務 (Advice for Private Tenants) 的重要文件。內容闡明我們的服務標準。如果您不能理解這份文件，請向能講英語的朋友或親屬尋求協助，或將文件交給您的房屋主任或房屋顧問。請您細閱文件，這對您最有利。

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ اس میں نجی رہنے والوں کے بارے میں اور ہمیں پورا کرنے والے سروس کے معیار کے بارے میں بات ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو براہ کرم اپنے دوست یا رشتہ دار سے کہیں کہ اس دستاویز کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ اس دستاویز کو پوری طرح سے پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔

ملاقات کا انتظام کریں گے۔

If you would like this leaflet in large print, Braille, audio cd or tape, please call the Private Rented Services Team on 0121 303 5070.